

سہارا پلانز



آپ کی خوشیوں کا سائبان!



HEMAYAH
EFU FAMILY TAKAFUL

ای ایف یو لائف - ونڈو تکافل آپریشنز

سہارا پلان A



آپ اپنی فیملی کے مالی تحفظ اور سہارے کا ذریعہ ہیں۔ آپ نے اپنی فیملی کے لیے بہت کچھ کیا ہے اور مستقبل میں بھی آپ چاہیں گے کہ ان کو بہتر سے بہتر زندگی حاصل ہو۔ البتہ، زندگی غیر متوقع ہے اور کوئی بھی فرد مستقبل کے غیر یقینی حالات پر اختیار نہیں رکھ سکتا۔ زندگی ایک مسلسل چیلنج ہے اور ایک محفوظ اور تحفظ شدہ زندگی کے لئے ہمیں اپنے پیاروں کے لئے حفاظتی اقدامات اٹھانے چاہئیں تاکہ ان کو گھر کے سر پرست اور کفیل کے وفات کے بعد اپنے زندگی کی سہولیات پر کوئی سمجھوتہ نہ کرنا پڑے۔

آپ کے اہل خانہ کو ایک محفوظ مستقبل فراہم کرنے کیلئے، ای ایف یولائف ونڈ وٹکافل آپریشنز نے، حبیب بینک لمیٹڈ کے ذریعے مارکیٹ کیا گیا، شریعہ سے مطابقت رکھنے والا ایک منفرد حل، **سہارا پلان A** متعارف کرایا ہے۔ یہ ٹرم ٹکافل پلان، جو کسی بھی وجہ سے وفات کی صورت میں تحفظ فراہم کرتا ہے۔ تحفظ شدہ رقم کی ادائیگی، ای ایف یولائف ونڈ وٹکافل آپریشنز کے زیر انتظام وقف فنڈ سے کی جائے گی۔

سہارا پلان A ایک ٹرم ٹکافل پلان ہے جو تمام تر وجوہات کی بناء پر ہونے والی وفات کی صورت میں تحفظ فراہم کرتا ہے۔ شرکاء ٹکافل کی وفات کی صورت میں، فائدہ حاصل کرنے والا ایک یکمشت رقم حاصل کر سکتا ہے۔ سہارا پلان میں دی گئی زر ٹکافل کی رقم کو وقف فنڈ، جو ای ایف یولائف ونڈ وٹکافل آپریشنز کے زیر انتظام ہے، وکالہ فیس وقف فنڈ سے نکالی جائے گی جس سے اس پلان سے منسلک تمام اخراجات جیسے کہ ایڈمنسٹریشن فیس، منجمنٹ فیس، وغیرہ، ادا کئے جائیں گے۔

سہارا پلان B

کسی بھی غیر متوقع صورت حال کیلئے منصوبہ بندی کرنا اپنے اہل خانہ کے لئے سب سے زیادہ ضروری چیزوں میں سے ایک ہے۔

ای ایف یولائف ونڈ وٹکافل آپریشنز کے ذریعے آپ اپنے اہل خانہ کے لئے ایک محفوظ اور تحفظ شدہ مستقبل کی راہ پر گامزن ہو سکتے ہیں ہم **سہارا پلان B** متعارف کر رہے ہیں، ایک ٹرم ٹکافل اور ہاسپٹل آڈیشن پلان جو آپ کو ایک مکمل ٹیکینج فراہم کرتا ہے **سہارا پلان B** حبیب بینک لمیٹڈ کے ذریعے مارکیٹ کیا گیا ہے۔ یہ پلان کسی بھی وجہ سے ہونے والی



وفات کی صورت میں تحفظ فراہم کرتا ہے اور اہل خانہ کو کفیل اور سرپرست کی وفات کے بعد آمدنی کے تسلسل کا فائدہ پیش کرتا ہے۔ نہ صرف یہ، بلکہ یہ پلان شرکاء ٹکافل کی زندگی میں بھی فائدہ مہیا کرتا ہے جیسے کہ ہاسپٹل کیش کا فائدہ جس میں بیمہ شدہ فرد کو، اگر وہ خاص طور پر کسی بھی حادثے یا بیماری کی وجہ سے کسی ہسپتال میں کم از کم چوبیس گھنٹے داخل رہا ہو، ہسپتال کے اخراجات کی ادائیگی میں مدد فراہم کرتا ہے۔ آئی سی یو میں داخلے کی صورت میں یومیہ فائدے کی سو فیصد مساوی اضافی رقم ادا کی جائے گی۔ فائدے کی رقم کی ادائیگی، ای ایف یولائف ونڈ وٹکافل آپریشنز کے زیر انتظام وقف فنڈ سے کی جائے گی۔ سہارا پلان میں دی گئی زر ٹکافل کی رقم کو وقف فنڈ، جو ای ایف یولائف ونڈ وٹکافل آپریشنز کے زیر انتظام ہے، وکالہ فیس وقف فنڈ سے نکالی جائے گی جس سے اس پلان سے منسلک تمام اخراجات جیسے کہ ایڈمنسٹریشن فیس، منجمنٹ فیس، ٹرانسفر فیس وغیرہ شامل ہیں، ادا کئے جائیں گے۔



کسی بھی قوم کی ترقی کے لئے خواتین کا خود مختار ہونا بہت ضروری ہے۔ خواتین کی خود مختاری ہمیشہ ذمہ داریاں ساتھ لے کر آتی ہے اور بعض اوقات خواتین کے پاس اپنی صحت کی دیکھ بھال کے لئے وقت نہیں ہوتا اور صحت میں اچانک خرابی زندگی کی دوڑ میں رکاوٹ پیدا کر دیتی ہے۔ خواتین کی خواہش ہوتی ہے کہ ان کے پاس ایسا کوئی منصوبہ ہو جو ان کی صحت کا خیال رکھنے میں مددگار ثابت ہو۔ اس

ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے ای ایف یولائف ونڈونکافل آپریشنز کے پاس خواتین کے تحفظ کا پلان موجود ہے۔ جس کے تحت ان کے سال کی طبی اخراجات کا تحفظ فراہم کیا جاتا ہے تاکہ ان کو علاج کے لئے بچت کی ہوئی رقم کو استعمال نہ کرنی پڑے۔ یہ ضروری ہے کہ آپ کے پاس صحت کا ایک مکمل منصوبہ ہو جو ضرورت کے تحت منصوبے کے طور پر آپ کی مدد کر سکے کیونکہ بہتر مہنگی طبی سہولیات بعض اوقات ناقابل برداشت ہوتی ہیں۔

ای ایف یولائف ونڈونکافل آپریشنز نے سہارا پلان C، شریعہ کے مطابق درج بالا مسئلے کا حل متعارف کرایا ہے، جو حبیب بینک لمیٹڈ کے ذریعے مارکیٹ کیا گیا ہے۔ یہ پلان کسی بھی وجہ سے ہونے والی وفات کی صورت میں تحفظ فراہم کرتا ہے۔ مزید اضافے کے طور پر آمدنی فائدہ شریک نکافل کے شریک حیات کے لئے ہے۔ جس کے تحت شریک نکافل کی کسی بھی وجہ سے وفات کی صورت میں اس کے شریک حیات کو ایک ماہانہ تحفظاتی رقم حاصل ہوگی۔ ہاسپٹل کیش کا فائدہ ہسپتال کے اخراجات کی بازادائیگی کا پلان ہے جس میں بیمہ شدہ فرد کو کسی بھی حادثے یا بیماری کی وجہ سے خاص طور پر کسی ہسپتال میں کم از کم چوبیس گھنٹے، مسلسل کسی فزیشن کی نگرانی میں داخل رہنا پڑے تو کمپنی اخراجات کی رسیدوں کی وصولی اور کلیم کی جانچ پڑتال کے بعد، یومیہ فائدہ ادا کرے گی۔ اگر شریک نکافل آئی سی یو میں داخل ہو جائے تو اسکو یومیہ فائدے کی سو فیصد مساوی اضافی رقم ادا کی جائے گی۔ خواتین کے لئے، پلان میں سیزیرین سیکشن کا فائدہ شامل ہے جو اس کو ایک مکمل پیکیج بنادیتا ہے جس سے ذہنی سکون حاصل ہوتا ہے۔

سہارا پلان میں دی گئی زر نکافل کی رقم کو وقف فنڈ، جو ای ایف یولائف ونڈونکافل آپریشنز کے زیر انتظام ہے، وکال فیس وقف فنڈ سے نکالی جائے گی جس سے اس پلان سے منسلک تمام اخراجات جیسے کہ ایڈمنسٹریشن فیس، منجٹ فیس، وغیرہ، ادا کئے جائیں گے۔

ای ایف یولائف کے نکافل آپریشنز

ای ایف یولائف ونڈونکافل آپریشنز اپنے صارفین کی اہمیت پر گہری توجہ مرکوز رکھتے ہوئے اخلاقی اور شریعہ سے مطابقت رکھنے والے مالیاتی منصوبہ بندی کے حل پیش کر رہا ہے۔ نکافل پروڈکٹ مشترکہ مقصد کے لئے ای ایف یولائف ونڈونکافل آپریشنز کے تحت چلائے جانے والے وقف فنڈ کے توسط سے، باہمی تعاون، بھائی چارے، باہمی مفاہمت اور یک جہتی کے ذریعے آپ کے نقصان کے احتمال میں حصہ لینے کے لئے آپ کی مدد کرتی ہے۔

کیا فوائد فراہم کئے جاتے ہیں؟ پلان A, B, C

بینیفٹ اور کنٹریبیوشن

سہارا پلان A شریک نکافل کی منتخب کئے گئے بینیفٹ اور کنٹریبیوشن کی رقم کے لئے درج ذیل انتخاب پیش کرتا ہے:

سالانہ کنٹریبیوشن	ٹرم نکافل (تحفظ)	پروڈکٹ
	طبعی اور حادثاتی وقت کی صورت میں فائدہ	انتخاب
500	125,000	A
2,000	500,000	A1
3,750	1,000,000	A2
7,500	2,000,000	A3

تمام رقم پاکستانی روپوں میں ہیں

سہارا پلان B شریک نکافل کی منتخب کئے گئے بینیفٹ اور کنٹریبیوشن کی رقم کے لئے درج ذیل انتخاب پیش کرتا ہے:

سالانہ کنٹریبیوشن	ہاسپٹل کیلن - فرد واحد		آمدنی فائدہ	ٹرم نکافل	پروڈکٹ
	یو مپاکی سی یو کا فائدہ	یو مپ نقد فائدہ	طبعی اور حادثاتی وقت کی صورت میں فائدہ	طبعی اور حادثاتی وقت کی صورت میں فائدہ	انتخاب
4,300	4,000	2,000	NA	640,000	B1
10,000	6,000	3,000	*600,000	1,360,000	B2

تمام رقم پاکستانی روپوں میں ہیں

* مسلسل بارہ مہینوں کے لئے 50,000 روپے ادا کئے جائیں گے۔

سہارا پلان C شریک نکافل کی منتخب کئے گئے بینیفٹ اور کنٹریبیوشن کی رقم کے لئے درج ذیل انتخاب پیش کرتا ہے:

سالانہ کنٹریبیوشن	ہسپتال میں داخلگی کی صورت میں			آمدنی فائدہ	ٹرم نکافل	پروڈکٹ
	سی سکشن فائدہ	یو مپ نقد فائدہ (آئی سی یو)	یو مپ نقد فائدہ (غیر آئی سی یو)	طبعی اور حادثاتی وقت (شریک حیات)	طبعی اور حادثاتی وقت	انتخاب
7,600	20,000	6,000	3,000	*480,000	960,000	پلان C

تمام رقم پاکستانی روپوں میں ہیں

* مسلسل بارہ مہینوں کے لئے 40,000 روپے ادا کئے جائیں گے۔

مزید تفصیلات:

سہارا پلان A

○ اندراج کی عمر 18 سے 65 سال

○ تحفظ کے لئے عمر 18 سے 66 سال

○ مدت ایک سال

○ تحفظ کسی بھی باعث موت واقع ہونا

○ غور و فکر کا دورانیہ پلان کے شرائط و ضوابط پر نظر ثانی کے لئے اور تحفظ منسوخ کرانے کے لئے

پلان کے اجراء سے تیس دن کے اندر اندر آپ غور و فکر کر سکتے ہیں۔

سہارا پلان B

- اندراج کی عمر 18 سے 64 سال
- تحفظ کے لئے عمر 18 سے 65 سال
- مدت ایک سال
- کسی بھی باعث موت واقع ہونا اور کسی حادثے یا بیماری کی صورت میں ہسپتال میں داخل ہونا
- غور و فکر کا دورانیہ پلان کے شرائط و ضوابط پر نظر ثانی کے لئے اور تحفظ منسوخ کرانے کے لئے
- پلان کے اجراء سے تیس دن کے اندر اندر آپ غور و فکر کر سکتے ہیں۔

ویٹنگ پیڑیڈ (اجراج کا دورانیہ)

- بیماری کے لئے تیس دن
- حادثاتی بینیفٹ کیلئے کوئی انتظار کا دورانیہ نہیں
- ہسپتال میں یکے بعد دیگرے داخلے کے درمیان تیس دن کا دورانیہ
- سال میں ہسپتال میں زیادہ سے زیادہ قیام 180 دن کا دورانیہ

سہارا پلان C

- اندراج کی عمر 18 سے 65 سال
- تحفظ کے لئے عمر 18 سے 66 سال
- مدت ایک سال
- کسی بھی باعث موت واقع ہونا اور کسی حادثے یا بیماری کی صورت میں ہسپتال میں داخل ہونا
- غور و فکر کا دورانیہ پلان کے شرائط و ضوابط پر نظر ثانی کے لئے اور تحفظ منسوخ کرانے کے لئے
- پلان کے اجراء سے تیس دن کے اندر اندر آپ غور و فکر کر سکتے ہیں۔

ویٹنگ پیڑیڈ (اخراج کا دورانیہ)

- بیماری کے لئے تیس دن
- حادثاتی بینیفٹ کیلئے کوئی انتظار کا دورانیہ نہیں
- ہسپتال میں یکے بعد دیگرے داخلے کے درمیان تیس دن
- سال میں ہسپتال میں زیادہ سے زیادہ قیام 180 دن

تحفظ میں کیا شامل نہیں ہے؟

یہ پالیسی کوئی تحفظ فراہم نہیں کرتی اور نہ ہی کوئی فوائد ادا کئے جاتے ہیں اگر ذیل میں درج کسی وجہ سے کلیم واقع ہوا ہو:

سہارا پلان A

- کوئی بھی پہلے سے موجود کیفیات جو اندراج کی تاریخ سے تیس دن کے بعد بیمہ کی جائیں۔
- خودکشی، از خود جسمانی ضرب پہنچانا اور رکن کا کوئی غیر قانونی فعل
- طبی مشورہ حاصل نہ کرنا یا اس پر عمل نہ کرنا، الکل یا منشیات کا استعمال
- مسلح افواج یا پیرا ملٹری افواج کے ساتھ خدمات انجام دیتے ہوئے کسی بھی قسم کی مشقوں یا آپریشن میں
- حصہ لینا یا پولیس کے فرائض کی کوئی بھی نوعیت
- بیرون ملک پاکستانیوں کے لئے: کسی بھی قسم کی جنگ، قبضہ، غیر ملکی دشمن کے کسی عمل، دشمنیوں (خواہ جنگ کا اعلان ہوا ہو یا نہیں)، مسلح یا غیر مسلح جنگ بندی، خانہ جنگی، بغاوت، سرکشی، ملٹری یا غاصب طاقت کی بغاوت یا، فساد یا شہری ہنگاموں، کسی غیر قانونی تنظیم، کسی صنعتی جھگڑے کے باعث موت واقع ہونا یا کسی ایسی جگہ پر جو جنگ زدہ علاقہ قرار دیا گیا ہو یا جہاں اقوام متحدہ ہامن بحال کرنے کی سرگرمیوں میں مشغول ہو۔

سہارا پلان B

ٹرم کافل اور آمدنی فائدے کے لئے:

- کوئی بھی پہلے سے موجود کیفیات جو اندراج کی تاریخ سے تیس دن کے بعد بیمہ کی جائیں۔
- خودکشی، از خود جسمانی ضرب پہنچانا اور رکن کا کوئی غیر قانونی فعل
- طبی مشورہ حاصل نہ کرنا یا اس پر عمل نہ کرنا، الکل یا منشیات کا استعمال
- مسلح افواج یا پیرا ملٹری افواج کے ساتھ خدمات انجام دیتے ہوئے کسی بھی قسم کی مشقوں یا آپریشن میں
- حصہ لینا یا پولیس کے فرائض کی کوئی بھی نوعیت
- بیرون ملک پاکستانیوں کے لئے: کسی بھی قسم کی جنگ، قبضہ، غیر ملکی دشمن کے کسی عمل، دشمنیوں (خواہ جنگ کا اعلان ہوا ہو یا نہیں)، مسلح یا غیر مسلح جنگ بندی، خانہ جنگی، بغاوت، سرکشی، ملٹری یا غاصب طاقت کی بغاوت یا، فساد یا شہری ہنگاموں، کسی غیر قانونی تنظیم، کسی صنعتی جھگڑے کے باعث موت واقع ہونا یا کسی ایسی جگہ پر جو جنگ زدہ علاقہ قرار دیا گیا ہو یا جہاں اقوام متحدہ ہامن بحال کرنے کی سرگرمیوں میں مشغول ہو۔

ہاسٹل کیش کے لئے:

- صرف تشخیصی مقاصد کے لئے ہسپتال میں داخل ہونا یا طبی مشورہ حاصل نہ کرنا؛
- از خود جسمانی ضرب پہنچانا، اقدام خودکشی، الکل کا استعمال، منشیات کی عادت یا ان کا استعمال، کسی جنسیتی طور پر منتقلی ہونے والی بیماریوں یا شریک ٹکافل کے غیر قانونی عمل کے نتیجے میں لگنے والی چوٹوں کا علاج؛
- حمل، اسقاط حمل، بچے کی پیدائش یا کوئی مہلک بیماری جو خاتون کے تولیدی عضلات میں یا ان کے سلسلے میں پیدا ہو۔

سہارا پلان C

ٹرم کافل اور آمدنی فائدے کے لئے:

- کوئی بھی پہلے سے موجود کیفیات جو اندراج کی تاریخ سے تیس دن کے بعد بیمہ کی جائیں۔

- خودکشی، از خود جسمانی ضرب پہنچانا اور رکن کا کوئی غیر قانونی فعل
- طبی مشورہ حاصل نہ کرنا یا اس پر عمل نہ کرنا، الکل یا منشیات کا استعمال
- مسلح افواج یا پیرامٹری افواج کے ساتھ خدمات انجام دیتے ہوئے کسی بھی قسم کی مشقوں یا آپریشن میں حصہ لینا یا پولیس کے فرائض کی کوئی بھی نوعیت
- بیرون ملک پاکستانیوں کے لئے: کسی بھی قسم کی جنگ، قبضہ، غیر ملکی دشمن کے کسی عمل، دشمنیوں (خواہ جنگ کا اعلان ہوا ہو یا نہیں)، مسلح یا غیر مسلح جنگ بندی، خانہ جنگی، بغاوت، سرکشی، ملٹری یا غاصب طاقت کی بغاوت، فساد یا شہری ہنگاموں، کسی غیر قانونی تنظیم، کسی صنعتی جھگڑے کے باعث موت واقع ہونا یا کسی ایسی جگہ پر جو جنگ زدہ علاقہ قرار دیا گیا ہو یا جہاں اقوام متحدہ امن بحال کرنے کی سرگرمیوں میں مشغول ہو۔

ہاسپٹل کیش کے لئے:

- صرف تشخیصی مقاصد کے لئے ہسپتال میں داخل ہونا یا طبی مشورہ حاصل نہ کرنا؛

- از خود جسمانی ضرب پہنچانا، اقدام خودکشی، الکل کا استعمال، منشیات کی عادت یا ان کا استعمال، کسی جنسیاتی طور پر منتقلی ہونے والی بیماریوں یا بیمہ دار رکن کے غیر قانونی عمل کے نتیجے میں لگنے والی چوٹوں کا علاج؛

- قدرتی آفات، وبائی آفات، بشمول زلزلہ، برقانی طوفان اور طوفان لیکن صرف ان ہی تک محدود نہیں، ان کے باعث ہونے والی بیماری یا چوٹ

سی سیکشن کے لئے:

کوئی بھی پہلے سے موجود کیفیت

کلیم پیش کرنے کا طریقہ:

کلیم کا تحریری نوٹس ای ایف یولائف ونڈو ٹکافل آپریشنز کو فوری طور پر دیا جائے لیکن کسی بھی صورت میں واقعہ ہونے کے بعد تودے دن سے زیادہ نہ ہو۔

تمام کلیم میں ان کا ثبوت اور شریک ٹکافل کی عمر کا ثبوت درکار ہوگا۔ صارف، درج ذیل دستاویزات کے ساتھ کلیم پیش کرنے کے لئے

claims@efulife.com پر ای میل کر سکتا ہے یا ای ایف یولائف ونڈو ٹکافل آپریشنز سے براہ راست 111-EFU-HEM

(436-338-111) پر رابطہ کر سکتا ہے:

ٹرم لائف کے لئے:

- نادر یا یونین کونسل کے جاری کردہ وفات سرٹیفکیٹ کی نقل
- شریک ٹکافل (جس کی وفات ہوئی ہو) اور کلیم پیش کرنے والے کے قومی شناختی کارڈ کی نقل
- کلیم پیش کرنے والے کا بیان
- جانیشی سرٹیفکیٹ اور اصل سرپرستی سرٹیفکیٹ (فائدہ حاصل کرنے والے کے نابالغ ہونے کی صورت میں)
- کلیم فارم مع دستخط
- کوئی اور دستاویز جو ای ایف یولائف ضروری سمجھے

ہاسپل کیش کے لئے:

- ہسپتال کے علاج کاریکارڈ جس میں ہسپتال میں داخلے اور اخراج کی تاریخ، طبی تشخیص اور علاج شامل ہو
- صارف کے قومی شناختی کارڈ کی نقل
- پولیس اور میڈیکولیکل رپورٹ اگر ہسپتال میں داخلہ کسی حادثے، تشدد اور اقامہ خودکشی کی وجہ سے ہو
- حادثے کی صورت میں، علاج کے اخراجات کی رسیدیں اور ڈاکٹر اور ہسپتال کی جانب سے جاری کئے گئے نسخے
- علاج کرنے والے فزیشن کی رپورٹ
- تمام طبی ریکارڈ کی نقول
- کوئی اور دستاویز جو ای ایف یو لائف ضروری سمجھے

سی سیکشن کے لئے:

- سی سیکشن کے اخراجات کی رسیدیں اور ڈاکٹر اور ہسپتال کی جانب سے جاری کئے گئے نسخے
- صارف کے قومی شناختی کارڈ کی نقل
- ہسپتال کے علاج کاریکارڈ جس میں ہسپتال میں داخلے اور اخراج کی تاریخ، طبی تشخیص اور علاج شامل ہو
- کوئی اور دستاویز جو ای ایف یو لائف ضروری سمجھے

حادثاتی طبی بازادائیگی کے لئے:

- صارف کے قومی شناختی کارڈ کی نقل
- پولیس اور میڈیکولیکل رپورٹ اگر ہسپتال میں داخلہ کسی حادثے، تشدد اور اقامہ خودکشی کی وجہ سے ہو
- حادثے کی صورت میں، علاج کے اخراجات کی رسیدیں اور ڈاکٹر اور ہسپتال کی جانب سے جاری کئے گئے نسخے
- علاج کرنے والے فزیشن کی رپورٹ
- تمام طبی ریکارڈ کی نقول
- کوئی اور دستاویز جو ای ایف یو لائف ضروری سمجھے

دستبرداری:

سہارا پلان A، B، اور C ٹرم تکافل اور ہسپتال کیش فائدہ کے پلانز ہیں اور یہ ای ایف یو لائف ونڈ تکافل آپریشنز کی طرف سے اندر رنٹ کئے گئے ہیں اور اس کی جانب سے جاری کئے گئے ہیں اور ای ایف یو لائف کے قواعد و ضوابط سے مشروط ہیں، جس کا مرکز ای دفتر پلاٹ نمبر ۱۱۲، ۸ ویں ایسٹ اسٹریٹ، ڈیفنس ہاؤسنگ اتھارٹی، فیرون، کراچی، پاکستان 75500 پر واقع ہے۔ سہارا پلان A، B، اور C صرف پروڈکٹس کا نام ہے اور کسی بھی طور پر وڈ کٹ کے معیار کی نشاندہی نہیں کرتا۔ بینک ای ایف یو لائف ونڈ تکافل آپریشنز کی جانب سے ان پلانز کے کارپوریٹ تکافل ایجنٹ کے طور پر کام کر رہا ہے۔ بینک کسی بھی طور ذمہ دار نہیں ہوگا اگر آپ کی درخواست یا کلیم ای ایف یو لائف کی طرف سے رد کردیا جائے گا نہ ہی کلیم کی اہلیت کے متعلق کوئی چھان بین کرے گا یا کوئی رائے فراہم کرے گا۔

ای ایف یولائف۔ ونڈ و تکافل آپریشنز

ای ایف یولائف ہاؤس، پلاٹ نمبر 112، 8th ایسٹ اسٹریٹ،
فیز 1، ڈی ایچ اے، کراچی، پاکستان

Email: gbd@efuhemayahtakaful.com



(021) 111-338-436 (111-EFU-HEM)



efuhemayahtakaful.com



/EFUHEmayah



EFUHEM
9898